



7	וְתֹאמֶר	מִי	מִלְלָה	לְאַבְרָהָם	הַיְיִקָּה	בָּנִים	שָׂרָה	כִּי	יִלְדֶנּוּ	בֶּן
	اور-کہا	کون	کہے-گا	ابراہام-سے	دودھ-پلائے-گی	بچوں-کو	سارہ	کیونکہ	جنا-ہے-میں-نے	بیٹا
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4310</a>		<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H3243</a>		<a href="#">H8283</a>		<a href="#">H3205</a>	

لَوَقַیְנוּ:  
اُس-کے-بڑھاپے-میں  
[H2208](#)

ابراہیم اگرچہ ہے، ہوا پیدا بیٹا ہاں میرے اب اور گی؟ پلائے دودھ کو بچوں اپنے سارہ کہ تھا سکتا کر جرأت کی کہنے یہ سے ابراہیم کون پہلے سے اس ہے۔  
[ ] گیا ہو بوڑھا

8	וַיְבָרֵךְ	הַיְיִלָּד	וַיִּנְמְלָה	וַיַּעַשׂ	אַבְרָהָם	מִשְׁתָּה	גְּדוּלָּה	בָּיִם	הַנְּמֻלָּה	אֶת-
	اور-بڑھا	بچہ	اور-دودھ-چھڑا	اور-بنایا	ابراہام-نے	دعوت	بڑی	دن-میں	دودھ-چھڑانے-کے	کا
	<a href="#">H1431</a>	<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H1580</a>		<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H4960</a>		<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1580</a>	<a href="#">H0853</a>

יִצְחָק:  
اسحاق  
[H3327](#)

کی-ضیافت بڑی لئے کے اُس نے ابراہیم تو گیا چھڑایا دودھ کا اُس جب گیا۔ ہوتا بڑا اسحاق

9	וַתֵּרָא	שָׂרָה	אֶת-	בֶּן-	הַנָּר	הַמִּצְרַיִת	אֲשֶׁר-	יִלְדָה	לְאַבְרָהָם	מִצְחָק:
	اور-دیکھا	سارہ-نے	کو	بیٹے	باجرہ-کے	مصری	جسے	جنا-تھا	ابراہام-کے-لیے	ہنس-مذاق-کرتے-ہوئے
	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H8283</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H1904</a>	<a href="#">H4713</a>		<a href="#">H3205</a>	<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H6711</a>

ہے-ربا اڑا مذاق کا اسحاق اسمعیل بیٹا کا باجرہ لونڈی مصری کہ دیکھا نے سارہ دن ایک

10	וַתֹּאמֶר	לְאַבְרָהָם	נָרָשׁ	הָאֵמָה	הַזֹּאת	וְאֵת	בְּנֵה	כִּי	לֹא	יִירָשׁ	בֶּן-
	اور-کہا	ابراہام-سے	نکال	لونڈی	اس	اور-کو	اُس-کے-بیٹے	کیونکہ	نہیں	وارث-ہو-گا	بیٹا
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H1644</a>	<a href="#">H0519</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3423</a>	

ہاؤمہ  
لونڈی-کا  
اس  
ساتھ  
میرے-بیٹے  
ساتھ  
اسحاق  
[H0519](#)  
[H2063](#)  
[H3327](#)

گا۔ [ ] پائے نہیں میراث ساتھ کے اسحاق بیٹے میرے وہ کیونکہ دیں، نکال سے گھر کو بیٹے کے اُس اور لونڈی [ ] اس کہا، سے ابراہیم نے اُس

11	וַיִּרַע	הַדְּבָר	מְאֹד	בְּעֵינָיו	אַבְרָהָם	עַל	אֵזְרָת	בְּנוֹ:
	اور-بری-لگی	بات	بہت	نظر-میں	ابراہام-کی	پر	وجہ-سے	اپنے-بیٹے-کی
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H3966</a>		<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H0182</a>		

تھا۔ بیٹا کا اُس بھی اسمعیل آخر لگی۔ بُری بہت بات یہ کو ابراہیم

12	וַיֹּאמֶר	אֱלֹהִים	אֵל-	אַבְרָהָם	אֵל-	יִרַע	בְּעֵינָיו	עַל-	הַנְּעֵר	וְעַל-	אֲמֹתָיִךְ
	اور-کہا	خدا-نے	سے	ابراہام	سے	بری-لگے	تیری-نظر-میں	پر	لڑکا	اور-پر	تیری-لونڈی
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H0408</a>				<a href="#">H5288</a>	<a href="#">H0519</a>	

کُل	אֲשֶׁר	תֹּאמֶר	אֵלָיִךְ	שָׂרָה	שָׁמַע	בְּקוֹלָהּ	כִּי	בִּיצְחָק	יִקְרָא	לְךָ
سب	جو	کہے-گی	تجھ-سے	سارہ	سن	اُس-کی-آواز	کیونکہ	اسحاق-میں	پکاری-جائے-گی	تیرے-لیے
<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H8283</a>	<a href="#">H8085</a>				<a href="#">H3327</a>	<a href="#">H7121</a>	

זָרַע:  
نسل  
[H2233](#)

تیری کیونکہ لے، مان بات کی سارہ لگے۔ نہ بُری تجھے وہ بے کہی میں بارے کے بیٹے کے اُس اور لونڈی اپنی نے سارہ بات [ ] جو کہا، سے اُس نے اللہ لیکن گی۔ رہے قائم سے ہی اسحاق نسل

13	וְגַם	אֶת-	בֶּן-	הָאִמָּה	לְגוֹי	אֲשִׁימְנוּ	כִּי	זָרְעָךָ	הוּא:
	اور-بھی	کو	بیٹے	لوٹڈی-کے	قوم-کے-طور-پر	بناؤں-گا-اُسے	کیونکہ	تیری-نسل	ہے
	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0519</a>				<a href="#">H2233</a>	<a href="#">H1931</a>

ہے۔ بیٹا تیرا وہ کیونکہ گا، بناؤں قوم ایک بھی سے اسمعیل میں لیکن

14	וַיִּשְׁכֶּם	וְאַבְרָהָם	בְּבֹקֶר	וַיִּקְחָהּ	לָחֵם	וְחִמְת	מִים	וַיִּתֵּן	אֵל-	הַגֵּר	שָׁם
	اور-صبح-سویرے-اٹھا	ابراہام	صبح-کو	اور-لیا	روٹی	اور-مشک	پانی-کی	اور-دیا	کو	باجرہ	رکھا
	<a href="#">H7925</a>	<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H1242</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H2573</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1904</a>	

عَل-	שָׁכְמָה	וְאֶת-	הַיָּלֵד	וַיִּשְׁלַחַהּ	וְתִלְךָ	וְתַחַע	בְּמַדְבַּר	שָׁבַע:	בְּאֵר
پر	اُس-کے-کندھے	اور-کو	بچے	اور-روانہ-کیا-اُسے	اور-گئی	اور-بھٹکی	بیابان-میں	بئیر-سبع-کے	
	<a href="#">H7926</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H8582</a>		<a href="#">H0884</a>	

کے بیرسبع چلتے چلتے باجرہ دیا۔ نکال سے گھر ساتھ کے لڑکے اُسے کر رکھ پر کندھوں کے باجرہ مشک کی پانی اور روٹی نے اُس اٹھا۔ سویرے صبح ابراہیم لگی۔ پھرنے اُدھر اِدھر میں ریگستان

15	וַיִּכְלוּ	הַמַּיִם	מִן-	הַחִמְת	וְתִשְׁלַחַךְ	אֶת-	הַיָּלֵד	תַּחַת	אֶחָד	הַשִּׁיחִים:
	اور-ختم-ہوا	پانی	سے	مشک	اور-ڈالا	کو	بچے	نیچے	ایک	جھاڑیوں-کے
	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3615</a>		<a href="#">H2573</a>	<a href="#">H7993</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H7880</a>

کر چھوڑ نیچے کے جھاڑی کسی کو لڑکے باجرہ گیا۔ ہو ختم پانی پھر

16	וְתִלְךָ	وְתִשְׁב	לָהּ	מִנְיָד	הַרְחֵק	כְּמִטְחָנִי	כִּי	אֲמַלְחָה	אֵל-	אֲרָאָה
	اور-گئی	اور-بیٹھی	اپنے-لیے	سامنے-سے	دور	جتنی-دوری-پر	تیر-کی	کہا-اُس-نے	نہیں	دیکھوں
	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H3427</a>		<a href="#">H5048</a>	<a href="#">H7368</a>	<a href="#">H2909</a>	<a href="#">H7198</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H7200</a>

בְּמֹז	הַיָּלֵד	וְתִשְׁב	מִנְיָד	וְתִשָּׂא	אֶת-	קִלְחָה	וְתִבְדֹּךְ:
مرنے-میں	بچے-کے	اور-بیٹھی	سامنے-سے	اور-اٹھایا	کو	اپنی-آواز	اور-روٹی
<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H3206</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H5048</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1058</a>	

لگی۔ رونے کر بیٹھ وہاں وہ سکتی۔ دیکھ نہیں مرتے اُسے میں کہا، میں دل نے اُس کیونکہ گئی۔ بیٹھ دُور فٹ 300 کوئی

17	וַיִּשְׁמַע	אֱלֹהִים	אֶת-	קוֹל	הַנְּעִר	וַיִּקְרָא	מְלֶאכֶד	אֱלֹהִים	אֵל-	הַגֵּר	מִן-	הַשָּׁמַיִם
	اور-سنا	خدا-نے	کو	آواز	لڑکے-کی	اور-پکارا	فرشتہ	خدا-کے	سے	باجرہ	سے	آسمان
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5288</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H4397</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H1904</a>	<a href="#">H8064</a>		

וַיִּאמֶר	לָהּ	מָה-	לָךְ	הַגֵּר	אֵל-	תִּירָאִי	כִּי-	שָׁמַע	אֱלֹהִים	אֵל-	קוֹל	הַנְּעִר
اور-کہا	اُس-سے	کیا	تجھے	باجرہ	نہیں	ڈر	کیونکہ	سنا-بے	خدا-نے	کو	آواز	لڑکے-کی
<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H1904</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5288</a>					

בְּאֶשֶׁר	הוּא-	שָׁם:
جہاں	وہ	ہے
<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H8033</a>	

لڑکے نے اللہ کیونکہ ڈر، مت ہے؟ بات کہا باجرہ، کی، بات سے باجرہ کر پکار سے پر آسمان نے فرشتے کے اللہ لی۔ سن آواز ہوئی روتی کی بیٹے نے اللہ لیکن لیا۔ سن رونا ہے پڑا وہاں جو کا

18	קִימִי	שָׂאִי	אֶת-	הַנְּעִר	וְהַתְּזִיקִי	אֶת-	יָדְךָ	בִּז-	כִּי-	לְגוֹי	גְּדוֹל
اٹھ	اٹھا	کو	لڑکے	اور-پکڑ	کو	اپنا-ہاتھ	اُس-پر	کیونکہ	قوم-کے-طور-پر	بڑی	بڑی
<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2388</a>	<a href="#">H5288</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3027</a>						

اَشیمنو:  
بناؤں-گا-اُسے

گا۔ بناؤں قوم بڑی ایک سے اُس میں کیونکہ لے، تھام ہاتھ کا اُس کر اٹھا کو لڑکے اٹھ،

19	וַיִּפְקַח	אֱלֹהִים	אֶת-	עֵינָיָהּ	וַתֵּרָא	בְּאֵר	מַיִם	וַתִּלְוֶהָ	וַתִּמְלֵא	אֶת-	הַחֲמַת
	اور-کھولیں	خدا-نے	کو	اُس-کی-آنکھیں	اور-دیکھا	کنواں	پانی-کا	اور-گئی	اور-بھرا	کو	مشک
	<a href="#">H6491</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0875</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2573</a>

مַיִם  
پانی-سے  
اور-پلایا  
[H8248](#)

אֶת-  
کو  
[H0853](#)

הַנְּעָר:  
لڑکے  
[H5288](#)

پلایا۔ کو لڑکے کر بھر سے پانی کو مشک اور گئی وہاں وہ پڑی۔ پر کنوئیں ایک نظر کی اُس اور دیں، کھول آنکھیں کی باجرہ نے اللہ پھر

20	וַיְהִי	אֱלֹהִים	אֶת-	הַנְּעָר	וַיִּגְדֵּל	וַיֵּשֶׁב	בְּמִדְבָּר	וַיְהִי	רֵבָה	קִשְׁת:
	اور-تھا	خدا	ساتھ	لڑکے-کے	اور-بڑھا	اور-رہا	بیابان-میں	اور-ہو-گیا	تیر-انداز	کمان-کا
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H5288</a>	<a href="#">H1431</a>	<a href="#">H3427</a>		<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H7199</a>

لگا۔ رہنے میں بیابان کر بن تیرانداز اور ہوا جوان وہ تھا۔ ساتھ کے لڑکے اللہ

21	וַיֵּשֶׁב	בְּמִדְבָּר	פָּאֲרֹן	וַתִּקַּח-	לָו	אֶמּוֹ	אִשָּׁה	מֵאֲרָץ	מִצְרַיִם:	פ
	اور-رہا	بیابان-میں	فاران-کے	اور-لیا	اُس-کے-لیے	اُس-کی-ماں-نے	بیوی	زمین-سے	مصر-کی	-
	<a href="#">H3427</a>		<a href="#">H6290</a>	<a href="#">H3947</a>		<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H4714</a>	

دیا۔ بیاہ سے عورت مصری ایک اُسے نے ماں کی اُس تو تھا رہتا میں ریگستان کے فاران وہ جب

22	וַיְהִי	בְּעֵת	הַהוּא	וַיֵּאמֶר	וּפִיכָל	שָׂר-	צָבָאוּ	אֶל-	אֲבְרָהָם
	اور-ہوا	وقت-میں	اُس	اور-کہا	اور-فیکول	سردار	اُس-کے-لشکر-کا	سے	ابراہام
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H6369</a>	<a href="#">H8269</a>		<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0085</a>
	لְאֵמָר	אֱלֹהִים	עֲמֹנָה	בְּכָל	אֲשֶׁר-	אֵתָהּ	עָשָׂה:		
	کہتے-ہوئے	خدا	تیرے-ساتھ	سب-میں	جو	تُو	کرتا-ہے		
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H3605</a>					

ہے۔ ساتھ کے آپ اللہ ہیں کرتے آپ بھی کچھ جو کہا، سے ابراہیم نے فیکل سالار سپاہ کے اُس اور مَلِک ابی میں دنوں اُن

23	וַעֲתָה	הַשְּׂבֵעָה	לִי	בְּאֱלֹהִים	הֲנֵה	אִם-	תִּשְׁקָר	לִי	וּלְנִינִי
	اور-اب	قسم-کھا	میرے-لیے	خدا-کی	یہاں	اگر	جھوٹ-بولے-گا	میرے-ساتھ	اور-میرے-بیٹے-سے
	<a href="#">H6258</a>	<a href="#">H7650</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H2008</a>		<a href="#">H8266</a>		<a href="#">H5209</a>

اور-میرے-پوتے-سے	وּלְנִינִי	כַּחֲסֹד	אֲשֶׁר-	עָשִׂיתִי	עֲמֹנָה	תַּעֲשֶׂה	עֲמֹנִי	וְעִם-	הָאָרֶץ
شفقت-کے-موافق	اور-میرے-پوتے-سے	جو	کی-ہے-میں-نے	تیرے-ساتھ	کرے-گا	میرے-ساتھ	اور-ساتھ	زمین	
<a href="#">H5220</a>					<a href="#">H5978</a>		<a href="#">H0776</a>		

אֲשֶׁר-  
جہاں  
נִרְתָּה  
رہا-ہے-تُو  
בָּה:  
اُس-میں

مہربانی وہی ہیں پردیسی آپ میں جس پر ملک اِس اور پر مجھ گے۔ دیں نہیں دھوکا کو اولاد آل میری اور مجھے آپ کہ کھائیں قَسَم کی اللہ سے مجھ اب ہے۔ کی پر آپ نے مَمیں جو کریں

24	וַיֵּאמֶר	אֲבְרָהָם	אֲנֹכִי	אֲשַׁבֵּעַ:
	اور-کہا	ابراہام-نے	میں	قسم-کھاؤں-گا
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H7650</a>

ہوں۔ کھاتا قَسَم مَمیں دیا، جواب نے ابراہیم

25	וְהוֹכַח	אֲבְרָהָם	אֶת-	אֲבִימֶלֶךְ	עַל-	אֲדוֹת	בְּאֵר	הַמַּיִם	אֲשֶׁר	נִזְלוּ	עַבְדֵי
	اور-شکایت-کی	ابراہام-نے	سے	ابیملک	پر	وجہ-سے	کنوئیں	پانی-کے	جسے	چھینا-تھا	نوکروں-نے
	<a href="#">H3198</a>	<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0040</a>	<a href="#">H0182</a>	<a href="#">H0875</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H1497</a>	<a href="#">H5650</a>	

אֲבִימֶלֶךְ:  
ابیملک-کے  
[H0040](#)

ہے۔ لیا کر قبضہ پر کنوئیں ایک ہمارے نے بندوں کے آپ کہا، بوئے کرتے شکایت سے ملک ابی نے اُس پھر

26	וַיֹּאמֶר	אֲבִימֶלֶךְ	לֹא	יָדַעְתִּי	מִי	עָשָׂה	אֶת־	הַדָּבָר	הַזֶּה	וְגַם־	אֲנִי	לֹא־
	اور-کہا	ابیملک-نے	نہیں	جانتا-تھا	کس-نے	کیا-ہے	کو	بات	اس	اور-بھی	تُو-نے	نہیں
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0040</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>

הַדָּבָר	לִי	וְגַם	אֲנִי	לֹא	שָׁמַעְתִּי	בְּלִילִי	הַיּוֹם:
بتایا	مجھے	اور-بھی	میں-نے	نہیں	سنا	سوئے	آج-کے
<a href="#">H5046</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H0595</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H1115</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3117</a>

ہوں۔ رہا سن بات یہ دفعہ پہلی میں آج بتایا۔ نہیں مجھے بھی نے آپ ہے۔ کیا ایسا نے کس کہ معلوم نہیں مجھے کہا، نے ملک ابی

27	וַיִּקַּח	אֲבְרָהָם	צֶאֱן	וַיִּבְרָךְ	וַיִּהְיֶן	לְאֲבִימֶלֶךְ	וַיִּבְרָתוּ	שְׁנֵיהֶם	בְּרִית:
	اور-لیا	ابراہم-نے	بھیڑ	اور-گائے	اور-دیا	ابیملک-کو	اور-باندھا-انہوں-نے	دونوں-نے	عہد
	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H1241</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H0040</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H1285</a>

باندھا۔ عہد ساتھ کے دوسرے ایک نے دونوں اور دیئے، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں کو ملک ابی نے ابراہیم تب

28	וַיֵּצֵב	אֲבְרָהָם	אֶת־	שִׁבְעַ	כִּבְשֹׁת	הַצֹּאֵן	לְבָרְהֵן:
	اور-الگ-کیا	ابراہم-نے	کو	سات	بھیڑ-بکریوں	ریوڑ-کی	اکیلی
	<a href="#">H5324</a>	<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3535</a>	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H0905</a>

لیا۔ کر الگ کو بچوں مادہ سات کے بھیڑ نے ابراہیم پھر

29	וַיֹּאמֶר	אֲבִימֶלֶךְ	אֶל־	אֲבְרָהָם	מָה	הַנְּהַ	שִׁבְעַ	כִּבְשֹׁת	הָאֵלֶּה	אֲשֶׁר	הֵצִיבְתָּ
	اور-کہا	ابیملک-نے	سے	ابراہم	کیا	ہیں	سات	بھیڑ-بکریاں	یہ	جو	الگ-کیا-ہے-تُو-نے
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0040</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H2007</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3535</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H5324</a>	<a href="#">H5324</a>

لְבָרְהֵן:  
اکیلی  
[H0905](#)

کیا؟ کیوں یہ نے آپ پوچھا، نے ملک ابی

30	וַיֹּאמֶר	כִּי	אֶת־	שִׁבְעַ	כִּבְשֹׁת	תִּקַּח	מִיָּדִי	בְּעִבּוֹר	הַהִיא־	לִי
	اور-کہا	کیونکہ	کو	سات	بھیڑ-بکریاں	لے-گا	میرے-ہاتھ-سے	تاکہ	ہو-گا	میرے-لیے
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3535</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H5668</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H1961</a>

לְעֵדָה	כִּי	הַפְּרִתִי	אֶת־	הַבְּאֵר	הַזֹּאת:
گواہی-کے-طور-پر	کہ	کھودا-ہے-میں-نے	کو	کنوئیں	اس
<a href="#">H2658</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2658</a>	<a href="#">H0875</a>	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H2063</a>

ہے۔ کھودا کو کنوئیں اس نے میں کہ ہوں گواہ کے اس یہ لیں۔ لے سے مجھ کو بچوں سات ان کے بھیڑ دیا، جواب نے ابراہیم

31	עַל־	זֶיֶן	קָרָא	לְמַקּוֹם	הַהוּא	שִׁבְעַבְבָּאֵר	כִּי	נֶשֶׁם	נִשְׁבְּעוּ	שְׁנֵיהֶם:
پر	اسی-لیے	پکارا-گیا	جگہ-کو	اُس	بئیر-سع	کیونکہ	وہاں	قسم-کھائی	دونوں-نے	
	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H4725</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0884</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H7650</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H8147</a>

کھائی۔ قَسَم نے مردوں دونوں اُن وہاں کیونکہ گیا، رکھا کنواں کا قَسَم یعنی بیرسع نام کا جگہ اُس لئے اس

32	וַיִּבְרָתוּ	בְּרִית	שִׁבְעַבְבָּאֵר	וַיִּקַּם	אֲבִימֶלֶךְ	וּפִיכֹל	שָׂר־	צָבָאוּ	וַיִּשְׁבּוּ
	اور-باندھا-انہوں-نے	عہد	بئیر-سع-میں	اور-اٹھا	ابیملک	اور-فیکول	سردار	اُس-کے-لشکر-کا	اور-لوٹے
	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H1285</a>	<a href="#">H0884</a>	<a href="#">H0040</a>	<a href="#">H6369</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H7725</a>

אֶל־  
پاس  
یاس  
زمین  
فلسطینیوں-کی  
[H0413](#)  
[H0776](#)  
[H6430](#)

گئے۔ چلے واپس ملک کے فلسطیوں فیکل اور ملک ابی پھر باندھا۔ عہد سے دوسرے ایک میں بیرسع نے اُنہوں یوں

33	וַיִּטֵּעַ	אֵשֶׁל	שֶׁבַע־בְּכָרִים	וַיִּקְרָא	שָׁם	בְּשֵׁם	יְהוָה	אֵל	עוֹלָם:
	اور-لگایا	درخت-ایشل	بئیر-سع-میں	اور-پکارا	وہاں	نام-پر	یہوواہ-کے	خدا	ابدی
	<a href="#">H5193</a>	<a href="#">H0815</a>	<a href="#">H0884</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H5769</a>

بے-خدا ابدی جو کی عبادت کی اُس کر لے نام کا رب نے اُس وہاں لگایا۔ درخت کا جھاؤ میں بیرسع نے ابراہیم بعد کے اِس

34	וַיָּנֶר	אֲבְרָהָם	בְּאֶרֶץ	פְּלִשְׁתִּים	יָמִים	רַבִּים:	ב
	اور-ٹھہرا	ابراہام	زمین-میں	فلسطینیوں-کی	دن	بہت	-
	<a href="#">H0085</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H6430</a>	<a href="#">H3117</a>			

سے۔ حیثیت کی اجنبی لیکن ربا، آباد میں ملک کے فلسٹیوں تک عرصے بہت ابراہیم